



سوال

(137) شیاطین کا جکڑے جانا اور ستاروں کا ٹوٹنا کیسا ہے؟

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

قرآن شریف میں آتا ہے کہ تارے شیطانوں کے لیے راجم ہیں، چواڑے مارے جاتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں سب شیطان قیٹکے جاتے ہیں مگر تارے اس طرح بدستور ٹوٹتے رہتے ہیں، ان کے ٹوٹنے کی وجہ بیان کی جائے؟ (اللہ دین چک نمبر ۷ اڈاک خانہ خاص ضلع ٹنگمیری)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

حدیث میں ہے سرکش شیطان جکڑے جاتے ہیں، سارے نہیں ملاحظہ ہو مشکوٰۃ کتاب الصوم پس اب کوئی اعتراض نہیں۔ (عبداللہ امرتسری مقیم روپڑ ضلع انبالہ، المحرم الحرام ۱۳۵۵ھ مطابق ۱۰ اپریل ۱۹۳۶ء فتاویٰ روپڑی: جلد اول، صفحہ ۱۲۰)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ علمائے حدیث

جلد 09 ص 331

محدث فتویٰ